

سورة الحجاره

مدینہ

سورة نمبر: ۵۸ آیات: ۲۲

۱. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا، بیشک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔

۲. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں (یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں) وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔

۳. جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے، اس کے ذریعے تم نصیحت کئے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔

۴. ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے دو مہینوں کے لگا تار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر ساٹھ مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لئے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم بردری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لئے دردناک عذاب ہے

۵. بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کئے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کئے گئے تھے، اور بیشک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں اور کافروں کے لئے تو ذلت والا عذاب ہے۔

۶. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا پھر انہیں ان کے کئے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔

الجزء  
۲۸  
الجزء  
۵۵

سُورَةُ الْحَجَّارَةِ

الجزء  
۵۸

۲۲

سُورَةُ الْحَجَّارَةِ

۵۸

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

تحقیق سن لی اللہ نے بات اس عورت جو جھگڑی بارے اپنے شوہر کے اور شکایت کر رہی تھی سے اللہ سے

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۱

اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو بیشک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں

مِنْكُمْ مِّن نِّسَائِهِمْ مَاهُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي

تم میں سے ہے اپنی بیویوں سے نہیں وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں مگر وہ (عورتیں) جنہوں نے

وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

جنم دیا ان کو اور بیشک وہ البتہ وہ کہتے ہیں منکر۔ ناپسندیدہ سے بات میں سے اور جھوٹ اور بیشک

اللَّهُ لَعَفْوٌ غَفُورٌ ۲

اللہ تعالیٰ البتہ معاف بخشش فرمانے والا ہے اور وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں سے اپنی بیویوں سے پھر وہ لوٹنا چاہتے ہوں

لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعْظُونَ

اس کے لئے انہوں نے کہا پس آزاد کرنا ہے ایک گردن کا اس سے پہلے وہ ایک دوسرے سے بات تم نصیحت کئے جاتے ہو

بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۳

ساتھ اور اللہ تعالیٰ بارے میں جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے وہ تو جو کوئی نہ پائے تو روزے رکھے دو مہینوں کے

مُتَابِعِينَ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ

مسلل۔ بے دریغ پہلے کہ وہ ایک دوسرے تو جو کوئی نہ استطاعت رکھتا ہو تو کھانا کھلانا ہے ساتھ

مَسْكِينًا ذَلِكَ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ

مسکینوں کا یہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور یہ حدود ہیں اللہ کی

وَاللَّكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۴

اور کافروں کے لئے عذاب ہے دردناک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی

كُتِبُوا كَمَا كُتِبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

ذلیل کئے گئے جیسا کہ ذلیل کئے گئے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اور تحقیق نازل کیا ہم نے آیات روشن۔ واضح

وَاللَّكَفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۵

اور کافروں کے لئے عذاب ہے رسوا کرنے والا وہ جس دن اٹھائے گا ان کو اللہ سب کو پھر وہ آگاہ کرے گا ان کو

بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۶

اس کے بارے میں انہوں نے عمل کئے گن رکھا ہے اس کو اللہ نے اور وہ بھول چکے ہیں اس کو اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ

کيا تم نے بیشک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کچھ جو میں آسمانوں میں ہے کچھ اور جو میں زمین میں ہے نہیں ہوتا سے

تَجْوَى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا هَوْرًا بِعُهُمْ وَلَا خُمْسَةَ إِلَّا هُوَسَادٍ سُهُمْ وَلَا أَدْنَى

سرگوشی میں (سے) تین کی مگر وہ چوتھا ہے ان کا اور نہ پانچ کی مگر وہ چھٹا ہے ان کا اور نہ کم تر

مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا تَمَّ يَنْبَتُهُمْ بِمَا

سے اس اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں وہ ہوں پھر وہ آگاہ کرے گا ان کو بارے میں

عَمَلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

جو انہوں نے دن قیامت کے بیشک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ۷ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (کی طرف) ان لوگوں

نَهَوْا عَنِ التَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَيَتَنَبَّجُونَ بِالْآثِمِ

جو روکے گئے سے سرگوشی (سے) پھر وہ لوٹتے ہیں واسطے وہ روکے جس سے اور وہ ایک دوسرے سے ساتھ گناہ کے

وَالْعُدْوَانَ وَمَعَصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حِيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ

اور زنادتی کے نافرمانی کے رسول (صلی اللہ علیہ اور جب وہ آتے ہیں وہ سلام کرتے اس سے نہیں سلام کیا تجھ کو

بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُكُمْ

جس سے اللہ نے اور وہ کہتے ہیں میں اپنے نفسوں میں کیوں نہیں عذاب دیتا ہم کو اللہ اس کے ہم کہتے ہیں کافی ہے ان کو

جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا فَنِسَّ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا

جہنم وہ جلس کے اس میں پس بدترین تھکانہ ہے ۸ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب

تَنْجِمْتُمْ فَلَا تَتَنَجَّجُوا بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانَ وَمَعَصِيَتِ الرَّسُولِ

تم سرگوشیاں کرو پس نہ تم سرگوشیاں کرو ساتھ گناہ کے اور زنادتی کے اور نافرمانی کے اور نافرمانی کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والہ وسلم)

وَتَتَجَّجُوا بِالْبُرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا

اور پوشیدہ بات کرو ساتھ نیکی کے اور تقویٰ کے اور ڈرو اللہ سے وہ ذات اس کی تم اکتھے کے جاؤ گے ۹ بیشک

التَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ

سرگوشی سے شیطان کی طرف (سے) تاکہ غمگین ہوں وہ لوگ جو ایمان لائے حالانکہ نہیں ضرر دینے والی ان کو

شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ يَا أَيُّهَا

کچھ بھی مگر اذن سے اللہ کے اور ہر اللہ (پر) کہ توکل کریں ۱۰ مومن لوگ اے

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ

لوگو جو ایمان لائے ہو جب کہا جائے تم سے کشادگی پیدا کرو میں مجلسوں (میں) تو کشادگی پیدا کرو کشادگی کے

اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ

اللہ تمہارے اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو بلند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

اور وہ لوگ دینے گئے علم درجات میں اور اللہ کے ساتھ اس تم عمل کرتے ہو ۱۱ باخبر ہے

۷. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے۔ تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اور اس سے کم اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، پھر قیامت کے دن انہیں اعمال سے آگاہ کرے گا، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

۸. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں اور آپس میں گناہ کی اور ظلم کی زیادتی کی اور پیغمبر کے نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا ان کے لئے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے سو وہ برا ٹھکانا ہے۔

۹. اے ایمان والو! تم جب سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم (زیادتی) اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو اور اس اللہ سے ڈرتے رہو، جس کے پاس تم سب جمع کئے جاؤ گے۔

۱۰. سرگوشیاں (بری)، پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔

۱۱. اے مسلمانو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کردو اللہ تمہیں کشادگی دے گا اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیئے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ (ہر اس کام سے) جو تم کر رہے ہو (خوب) خبردار ہے۔



۱۲. اے مسلمانو! جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے، ہاں اگر نہ پاؤ تو بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔

۱۳. کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا تو اب (بخوبی) نمازوں کو قائم رکھو زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اس (سب) سے اللہ (خوب) خبردار ہے۔

۱۴. کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ جنہوں نے اس سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے نہ یہ (منافق) تمہارے ہی ہیں نہ ان کے پیسے، اور باوجود علم کے پھر بھی جھوٹی قسمیں کہا رہے ہیں۔

۱۵. اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں برا کر رہے ہیں۔

۱۶. ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ان کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔

۱۷. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گی۔ یہ تو جہنمی ہیں ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے

۱۸. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں (اللہ تعالیٰ) کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی (دلیل) پر ہیں یقین مانو کہ بیشک وہی جھوٹے ہیں۔

۱۹. ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، یہ شیطانی لشکر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔

۲۰. بیشک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔

۲۱. اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بیشک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مُوَابِّئِينَ يَدِي نَجْوَاكُمْ

اے لوگو! جو ایمان لائے ہو جب سرگوشی کرو تم رسول سے تو بیشک کرو ہاتھوں کے درمیان (پہلے) اپنی سرگوشی کے

صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

صدقہ یہ بات بہتر ہے تمہارے اور زیادہ پاکیزہ ہے اگر نہ تم پاؤ تو بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے

۱۲ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدِي نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ فَأِذْ لَمْ تَفْعَلُوا

۱۲ کیا ڈر گئے تم کہ تم آگے بھجوں ہاتھوں کے درمیان (پہلے) اپنی سرگوشیوں سے صدقات بھر نہ تم کرو

وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ

اور مہربان ہو اللہ تم پر توفیق کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ کی

وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا

اور اس کے رسول کی اور اللہ تعالیٰ بخیر ہے اس کے تم عمل کرتے ہو ﴿۱۳﴾ کیا تم نے ان لوگوں کے جنہوں نے

قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ

ایک قوم کو غضبناک ہو اللہ ان پر نہیں وہ تم میں سے اور نہ ان میں سے اور وہ قسمیں پر جھوٹ (پر)

وَهُمْ يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا

اور وہ جانتے ہیں ﴿۱۴﴾ تیار کیا اللہ نے ان کے لئے عذاب شدید سخت بیشک وہ برا ہے جو وہ ہیں

يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَاهُمْ

وہ عمل کرتے ﴿۱۵﴾ انہوں نے بنا لیا اپنی قسموں کو ڈھال تو انہوں نے سے راستہ (سے) اللہ کے تون کے لئے

عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۶﴾ لَن نُّغْنِي عَنْهُمْ ءَمْوَالَهُمْ وَلَا ءَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ

عذاب ہے رسوا کرنے والا ﴿۱۶﴾ ہرگز نہ کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد سے اللہ (سے)

شَيْئًا ءَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ

کچھ بھی یہی لوگ ساتھی ہیں آگ کے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ﴿۱۷﴾ جس دن اٹھائے گا ان کو

اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

اللہ سب کے سب کو پھر وہ قسمیں لگائے گے جیسا کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے اور وہ سمجھتے ہیں بیشک وہ

عَلَى شَيْءٍ ءَأَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۱۸﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ

اوپر کے ہیں ایک چیز خبردار بیشک وہ وہی جھوٹے ہیں ﴿۱۸﴾ غالب آگیا۔ گھبر لیا۔ احاطہ کر لیا ان پر شیطان نے

فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ءَأُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ءَأَلَّا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ

تو اس نے بھلا دیا ان کو ذکر اللہ کا یہی لوگ گروہ ہیں شیطان کا خبردار بیشک گروہ شیطان کا

هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ءَأُولَئِكَ فِي الْاٰذِلِينَ

وہ خسارہ پانے والے ہیں ﴿۱۹﴾ بیشک وہ لوگ جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا یہی لوگ میں سب سے ذلیل (مخلوق) میں سے ہیں

﴿۲۰﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلَبَنَّ اَنَا وَرُسُلِي ءَأَبَّ اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۲۱﴾

﴿۲۰﴾ لکھ دیا اللہ نے اللہ میں ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا زبردست ہے ﴿۲۱﴾

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ

نہ تم پاؤ گے ایک قوم جو ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر وہ محبت رکھتے ہوں سے جس مخالفت کی

اللَّهُ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ

اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اگر وہ ان کے آباؤ اجداد یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائیوں

أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ

یا ان کے اہل خاندان یہی لوگ اس نے واضح کر دیا لکھ دیا میں ان کے دلوں میں ایمان اور تائید کی ان کی

بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

ساتھ ایک روح کے اور وہ داخل کرے گا ان کو باغوں میں بہتی ہیں ان کے نیچے انہیں

خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ

ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں راضی ہو گیا اللہ نے ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے یہی لوگ گروہ ہیں

اللَّهِ الْأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ الَّتِي

اللہ کا سنو بیشک گروہ اللہ کا وہی ہیں جو فلاح والے ہیں ۵۸:۲۲

۲۴

سُورَةُ الْحَشْرِ

۵۹

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

تسبیح کی ہے اللہ کے چیز میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ

۵۹:۱ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان لوگوں کو جنہوں نے سے اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے

لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَّتُمْ أَنْ يَمُوتَ غَوْبًا وَمَنْ بَدَّلَهُمْ

پہلے ہی حشر میں نہیں تم نے گمان کیا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ سمجھ کہ بیشک وہ بچانے والے ہیں ان کو

وَوَضَعَهُمْ وَأَنْزَلَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ فِي سُدُورِهِمْ أَكْفَابًا

ان کے قلعے سے اللہ پس آیا ان کے پاس اللہ سے جہاں سے نہیں انہوں نے خیال ہی کیا اور اس نے ڈال دیا

فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُجْرِبُونَ بِيُوتِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ

میں ان کے دلوں میں رعب وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور ہاتھوں سے مومنوں کے

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۖ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ

پس عبرت بکرو اے والو آنکھوں والو ۵۹:۲ اور اگر نہ ہوتی یہ بات لکھ دی اللہ نے ان پر

الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ

جلاوطنی البتہ عذاب دینا ان کو میں دنیا میں اور ان کے لئے میں آخرت میں عذاب ہے آگ کا ۵۹:۳

۲۲. اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ (قبیلے) کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں، یہ خدائی لشکر ہے آگاہ رہو بیشک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔

سورة الحشر

مدینہ

سورة نمبر: ۵۹ آیات: ۲۴

۱. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب با حکمت ہے۔  
۲. وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان (بھی) نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے (سنگین) قلعے انہیں اللہ (عذاب) سے بچالیں گے، پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آپڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمان کے ہاتھوں (برباد کروا رہے تھے)، پس اے آنکھوں والو! عبرت حاصل کرو۔

۳. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً دنیا میں ہی عذاب دیتا اور آخرت میں (تو) ان کے لئے آگ کا عذاب ہے ہی۔



۴. یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔

۵. تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا اور اس لئے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے۔

۶. اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا ہے جس پر نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ اونٹ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

۷. بستوں والوں کا جو (مال) اللہ تعالیٰ تمہارے لئے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائے وہ اللہ کا ہے اور رسول کا اور قربت والوں کا اور یتیموں مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے اور تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔

۸. (فئ کا مال) ان مہاجر مسکینوں کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیئے گئے ہیں وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی راست باز لوگ ہیں۔

۹. اور (ان کے لئے) جنہوں نے اس گھر میں (یعنی مدینہ) اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنالی اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں گو خود کتنی ہی سخت حاجت ہو۔ (بات یہ ہے) کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور با مراد ہے۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

یہ بوجہ اس کے کہ وہ انہوں نے مخالفت کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو مخالفت کے کا اللہ کی توبیشک اللہ تعالیٰ سخت

۴ مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ

سزا دینے والا ہے ۵:۴ جو بھی کاٹتے تم نے کے کھجوروں کے درخت یا تم نے چھوڑ دیا ان کو کھڑے ہوئے ہر

أُصُولَهَا فَيَاذَنْ اللَّهُ وَبِخَزِيءِ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ

ان کی جڑوں پر تو ساتھ اذن کے اللہ کے اور تاکہ وہ رسوا کرے فاسقوں کو ۵:۵ اور جو بھیر لایا اللہ

عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ

پر اپنے رسول (پر) ان میں سے ہیں نہیں دوڑائے تم نے اس پر کوئی گھوڑے اور نہ سواری

وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے اپنے رسولوں کو پر جس (پر) وہ چاہتا ہے اور اللہ اوپر ہر چیز

قَدِيرٌ ۖ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

قدرت رکھنے والا ہے ۵:۶ جو بلنایا اللہ نے پر اپنے رسول (پر) سے والوں (والوں) بستی (والوں) پس اللہ کے اور رسول کے لئے

وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ

اور کے لئے رشتہ داروں اور یتیموں کے لئے اور مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے تاکہ نہ ہو

دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ

گھومتے رہنا۔ گردش کرنا۔ درمیان مال داروں کے۔ غنی لوگوں کے تم میں سے اور جو دین تم کو رسول بس لے لو اس کو

وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اور جس سے روکیں تم کو اس سے پس رک جاؤ اور ڈرو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے

۷ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

۵:۷ ان غریبوں کے لئے مہاجرین وہ لوگ جو نکالے گئے سے اپنے گھروں (سے) اور اپنے مالوں سے

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ

وہ چاہتے ہیں فضل سے اللہ کی اور رضامندی اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی

أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۗ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن

یہی لوگ وہ جو سچے ہیں ۵:۸ اور وہ لوگ جگہ پکڑی جنہوں نے گھر میں اور ایمان لائے سے

قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ

ان سے قبل وہ محبت رکھتے ہیں جو ہجرت کرے ان کی طرف اور نہیں وہ باتے میں اپنے سینوں میں

حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

کوئی حاجت اس میں ہے جو وہ دئیے گئے اور وہ ترجیح دیتے ہیں پر اپنے نفسوں پر اور اگرچہ ہو ان کو بھوک۔ تنگی

وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۗ

اور جو کوئی بچالیا گیا خود غرضی سے اپنے نفس کی توابیے لوگ وہی فلاح پائے والے ہیں ۵:۹

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد وہ کہتے ہیں ہمارے بخش دے ہمارے اور بھائیوں کو

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ

وہ جو سبقت لے گئے ہم سے ایمان میں اور نہ تو ڈال میں ہمارے دلوں میں بغض ان لوگوں سے

ءَامِنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ \* أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

جو ایمان لائے ہمارے بیشک تو شفقت کرنے والا مہربان ہے ﴿۱۰﴾: کیا تم نے دیکھا نہیں کیا تم نے طرف ان لوگوں کی طرف

نَافِقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ

جنہوں نے منافقت کی وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے ان سے جنہوں نے کفر کیا سے اہل کتاب میں سے

لَيْنَ أَخْرَجْتُمُنَا مِنْ دِينِنَا وَمَا نَطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا

البتہ اگر نکالے گئے تم البتہ ہم ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ اور نہ ہم اطاعت کریں گے تمہارے معاملے میں کسی ایک کی کہی بھی

وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

اور اگر جنگ کی گئی تم سے البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری اور اللہ گواہی دیتا ہے بیشک وہ البتہ جھوٹے ہیں

لَيْنَ أَخْرَجُوا لِيَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيْنَ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ

﴿۱۱﴾: البتہ اگر وہ نکالے گئے نہیں وہ نکلیں گے ان کے ساتھ اور البتہ اگر وہ جنگ کی گئے نہیں وہ مدد کریں گے ان کی

وَلَيْنَ نَّصُرُوهُمْ لَيُوَلِّيَنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ﴿١٢﴾ لَأَنْتُمْ

اور البتہ اگر انہوں نے مدد کی بھی ان کی البتہ ضرور پھیر لیں گے پھینک دو یہور نہ وہ مدد دینے جائیں گے ﴿۱۲﴾: البتہ تم

أَشَدُّ رَهَبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

زیادہ سخت ہوں رعب میں میں ان کے سینوں (میں) سے اللہ سے یہ بوجہ اس کے ایک قوم ہیں کہ بیشک وہ

لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يَقْتُلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ مُحْصَنَةٍ

نہیں جو سمجھتے ﴿۱۳﴾: وہ جنگ کریں گے تم سے سب مل کر مگر میں بستوں (میں) قلعہ بند ہو کر

أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا

یا سے پیچھے (سے) دیواروں کے ان کی جنگ آپس میں شدید ہے تم سمجھتے ہو ان کو اکٹھا

وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ

اور دل ان کے بے عقل ہیں مختلف ہیں بوجہ اس کے کہ بیشک وہ لوگ ہیں نہیں جو عقل رکھتے ﴿۱۴﴾: مانند مثال

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ

ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے قریب ہی انہوں نے چکھا وبال اپنے کرنے کا اور ان کے لئے عذاب ہے

أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا

دردناک ﴿۱۵﴾: جیسے مثال شیطان کی طرح جب اس نے کہا انسان سے کفر کرو توجہ

كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

اس نے کفر کیا کہا میں بے گناہ ہوں بری الذمہ ہوں تجھ سے میں بیشک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے تمام جہانوں کا ﴿۱۶﴾:

۱۰. اور (ان کے لئے) جو ان کے بعد آئیں، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دل میں کہیں (اور دشمنی) نہ ڈال، اے ہمارے رب بیشک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔

۱۱. کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا؟ کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کئے گئے تو ضرور بالضرور ہم تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہونگے اور تمہارے بارے میں ہم کہی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔

۱۲. اگر وہ جلا وطن کئے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے اور اگر (با فرض) مدد پر آہی گئے تو پیٹھ پھیر کر (بھاگ کھڑے) ہوں پھر مدد نہ کئے جائیں گے۔

۱۳. (مسلمانو! یقین مانو) کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بہ نسبت اللہ کی ہیبت کے بہت زیادہ ہے، یہ اس لئے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔

۱۴. یہ سب ملکر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لئے یہ بے عقل لوگ ہیں۔

۱۵. ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لئے المناک عذاب (تیار) ہے۔

۱۶. شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر، جب کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔



۱۷. پس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش (دوزخ) میں ہمیشہ کے لئے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔

۱۸. اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل (قیامت) کے واسطے اس نے (اعمال کا) کیا (ذخیرہ) بھیجا ہے اور (ہر وقت) اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔

۱۹. اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ (کے احکام) کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا، اور ایسے ہی لوگ نافرمان (فاسق) ہوتے ہیں۔

۲۰. اہل نار اور اہل جنت (باہم) برابر نہیں، جو اہل جنت میں ہیں وہی کامیاب ہیں (جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں)۔

۲۱. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔

۲۲. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا مہربان اور رحم کرنے والا۔

۲۳. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زور آور، اور بڑائی والا، پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔

۲۴. وہی ہے اللہ پیدا کرنے والا وجود بخشنے والا صورت بنانے والا، اسی کے لئے نہایت اچھے نام ہیں، ہرچیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ

تو تھا ان دونوں کا انجام بیشک وہ دونوں میں آگ میں ہمیشہ رہنے والے اس میں اور یہی ہے بدلہ

الظَّالِمِينَ ﴿١٧﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ

ظالموں کا ۵۹:۱۷ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس

مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

جو اس نے آگے بھیجا کل کے لئے اور ڈرو اللہ سے بیشک اللہ تعالیٰ باخبر ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو ۵۹:۱۸

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ

اور نہ ہوتے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو پھر اس نے بھلا دیا ان کو ان کے نفس کو یہی لوگ

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ

وہ جو فاسق ہیں ۵۹:۱۹ نہیں برابر ہوسکتے ساتھی اک کے ساتھی والے

الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا

اور جنت کے ساتھی جنت والے وہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں ۵۹:۲۰ اگر نازل کرتے ہم اس

الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ

قرآن کو اوپر ایک پہاڑ کے البتہ تم دیکھتے اس کو دبا ہوا بھٹتا ہوا۔ بھٹنے والا سے ڈر (سے)

اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

اللہ کے اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں ان کو لوگوں کے لئے تاکہ وہ وہ غور و فکر کریں

﴿٢١﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

۵۹:۲۱ وہ اللہ وہ ذات ہے نہیں کوئی الہ مگر وہی جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا

هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ

وہ رحمن ہے اور رحیم ہے ۵۹:۲۲ وہ اللہ وہ ذات ہے نہیں کوئی الہ مگر وہی بادشاہ

الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ

بہت مقدس سراسر سلامتی امن دینے والا نگہبان زبردست بزرگ حکم نافذ کرنے والا

الْمَتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ

بڑا بوقریضے والا پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک نہیں لیتے ۵۹:۲۳ وہ اللہ

الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ

خالق ہے پیدا کرنے والا ہے صورت بنانے والا ہے اسی کے لئے تسبیح کر رہے ہیں

لَهُ وَمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

اس کے جو وہی میں آسمانوں (میں) ہیں اور زمین میں اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے ۵۹:۲۴

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست تم ذلّت ہو

إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ

ان کی طرف محبت کو حالانکہ انہوں نے اس پر آپا تمہارے پاس سے حق میں وہ نکالتے ہیں رسول کو

وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ

اور تم کو کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو رب ہے اگر ہو تم نکلے تم جہاد کو میں میں سے راستے

وَأَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ

اور تلاش کرنے کو میری رضا تم چھپا کر ان کی طرف محبت کو اور میں خوب جانتا ساتھ اس کے جو تم چھپاتے ہو

وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱

اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کوئی کرے گا اس کو تم میں سے تو تحقیق وہ بہتک گیا سیدھے راستے سے ۱:۱ اگر

يَتَّقُوكُمْ يُكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمُ

وہ قابو پا جائیں تم پر وہ ہوں گے تمہارے دشمن اور وہ دراز کریں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں

بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝۲ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ

ساتھ برائی کے اور وہ چاہیں گے کاش تم کفر کرو ۲:۲ بزرگ کام آئیں گے تم کو۔ تمہارے رحم۔ اور نہ تمہاری اولادیں نہیں فائدہ دین گے تم کو رشتے دار یاں

يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۳ قَدْ كَانَتْ

دن قیامت کے وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان اور اللہ تعالیٰ اس کو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ۳:۳ تحقیق ہے

لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا

تمہارے نمونہ اچھا میں ابراہیم (میں) اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے بیشک ہم

بُرءَاءُ وَأَؤْمِنُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا

بری الذمہ ہیں تم سے اور ان سے تم بوجھتے ہو سوا اللہ کے ہم نے تمہارے ساتھ اور ظاہر ہمارے درمیان

وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ ۝۴ الْإِقْوَالِ

اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اکیلے اس پر مگر بات

إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۝۵

ابراہیم کی اپنے والد سے بخشش مانگوں گا البتہ میں ضرور آپ کے لئے اور نہیں میں مالک آپ کے سے اللہ (سے) کسی چیز کا

رَبَّنَا عَلَيْنِكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝۶ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا

اے ہمارے رب ہم نے توکل کیا اور آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کی طرف لوٹنا ہے ۶:۶ ہمارے رب نے تو بنا ہم کو

فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۝۷ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۸

آزمائش ان لوگوں کے لئے جنہوں نے کفر کیا اور بخش دے ہم کو ہمارے بیشک تو نبی زبردست ہے حکمت والا ہے ۷:۸

۱. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو! میرے اور (خود) اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ تم دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکا ہے کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو اگر تم میری راہ میں جہاد کے لئے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو (تو ان سے دوستیاں نہ کرو)، ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔

۲. اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے (کھلے) دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور (دل سے) چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔

۳. تمہاری قربتیں، رشتہ داریاں، اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔

۴. مسلمانو! تمہارے لئے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں، ہم تمہارے (عقائد کے) منکر ہیں جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لئے بغض و عداوت ظاہر ہوگئی، لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لئے استغفار ضرور کروں گا اور تمہارے لئے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے،

۵. اے ہمارے رب! تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال اور اے ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بیشک تو ہی غالب، حکمت والا ہے۔



۶. یقیناً تمہارے لئے ان میں اچھا نمونہ (اور عمدہ پیروی بے خاص کر) ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔

۷. کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے، اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ (بڑا) غفور رحیم ہے۔

۸. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا بے شک اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

۹. اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں گھروں سے نکال دیا اور گھروں سے نکال دینے والوں کی مدد کی جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ (قطعاً) ظالم ہیں۔

۱۰. اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لو، دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لئے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لئے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو، ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں اور کافر عورتوں کے ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم (اور) حکمت والا ہے۔

۱۱. اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے پھر تم اس کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

البتہ ہے تمہارے ان میں نمونہ اچھا اس کے لئے ہو امید رکھتا اللہ سے اور یوم آخرت کی تحقیق

وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ

منہ موز اور جو کوئی جائے۔ منحرف تو بیشک اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے ۶:۱۰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ بنادے تمہارے ہو جائے درمیان

وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةَ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور درمیان ان لوگوں کے تم نے دشمنی کی ان میں سے محبت اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے

لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم

۶:۱۱ نہیں روکتا تم کو اللہ سے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے جنگ میں معاملے میں دین کے اور نہیں نکالا تم کو

مِّن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

سے تمہارے کہ تم نیکی کرو ان سے اور تم انصاف کرو ان کی طرف بیشک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو

إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن

۶:۱۲ بیشک روکتا ہے تم کو اللہ سے ان لوگوں سے جنہوں نے جنگ میں دین کے اور نکالا تم کو سے

دِينِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ

تمہارے اور انہوں نے ایک گھروں سے دوسرے کی مدد کی تمہارے نکالنے پر کہ تم دوستی کرو ان سے اور جو کوئی دوستی کرے ان سے تو وہی لوگ

هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ

وہ ظالم ہیں ۶:۹ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب آجائیں مومن عورتیں ہجرت کرتے ہوئے

فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَمْنِهِنَّ خَبِيرٌ فَان يَعْلَمُ ۚ فَإِن عَامَتُمُوهُنَّ مَّؤْمِنَاتٍ فَلَا

تو جانچ پڑتال کر لو ان کی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کے بارے میں پھر اگر تم جان لو ان کو ایمان والیاں تو نہ

تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ جُلُ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يُحِلُّونَ لِهِنَّ وَأَتُوهُم

تم لوٹو ان کو طرف کفار کی طرف نہ وہ جلال ان مردوں اور نہ وہ حلال ہوسکتے ان عورتوں اور دونوں کو

مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ

جو خرچ کیا اور نہیں کوئی گناہ تم پر کہ تم نکاح کرو ان سے جب دے چکو تم ان کو ان کے مہر

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُفَّارِ وَتَسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مَّا أَنفَقُوا

اور نہ تم بکڑ رکھو نکاح کو کافر عورتوں کے اور مانگو جو خرچ کیا تم نے اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لیں جو خرچ کیا انہوں نے

ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِن فَاتَكُمْ

یہ فیصلہ ہے اللہ کا وہ فیصلہ تمہارے درمیان اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے ۶:۱۰ اور اگر ہاتھ سے نکل جائے تمہارے

شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَابَقْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ

کوئی چیز سے تمہاری بیویوں میں سے طرف کفار کی طرف) پھر تمہاری باری آئی تم دو ان لوگوں کو چلی گئیں

أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مَوْمُونَ ﴿١١﴾

بیویاں جن کی مانند اس کے جو خرچ کیا انہوں نے اور ڈرو اللہ سے وہ ذات تم اس کے ساتھ ایمان لائے ہو ۶:۱۱

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ

اے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جب آپ کے پاس آنیں اور وہ بیعت کریں آپ سے اور نہ کسی اور کو شریک بنائیں اللہ کے ساتھ

شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ

کسی چیز کو اور نہ وہ چوری کریں گی اور نہ وہ زنا کریں گی اور نہ وہ قتل کریں گی اپنے بچوں کو اور نہ وہ آئیں گی

بِهَتِّنَ يَفْتَرِينَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِينَكَ فِي

بہتان لے کر گھڑیں درمیان اپنے ہاتھوں (ان کے سامنے) اور اپنے پاؤں کے اور نہ نافرمانی کریں گی آپ کی میں

مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

کسی معروف میں تو بیعت کر لو ان سے اور بخشش مانگو ان کے لئے اللہ سے بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم دوست بناؤ ایسی قوم کو ناراض ہو اللہ جن پر تحقیق

يَسُّوْا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

وہ مایوس ہو گئے سے آخرت سے جیسا کہ مایوس ہوئے کافر لوگ سے والوں سے قبریں

## سُورَةُ الصَّفِّ

۱۴

۶۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

تسبیح کی ہے اللہ کے چیز میں آسمانوں میں ہے اور جو میں زمین (میں ہے) اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیوں تم کہتے ہو وہ جو نہیں تم کرتے

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

بڑا ہے بغض میں اللہ کے کہ تم کہو وہ جو نہیں تم کرتے

اللَّهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ

اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں میں اس کے راستے (میں) کر۔ صف بنا کر گویا کہ وہ

بُنِينَ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ

دیوار ہیں۔ سیسہ پلائی ہوئی اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم کیوں

تُؤذُونِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا

تم مجھ کو اذیت دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو بیشک رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف بہر جب و تیرھے ہوئے

أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِينَ

تیرھا کر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو فاسق ہیں

۱۲. اے پیغمبر! جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کریں بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔

۱۳. اے مسلمانو! تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، انہوں نے آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔

سورة الصف

مدینہ

سورة نمبر: ۶۱ آیات: ۱۴

۱. زمین و آسمان کی ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔

۲. اے ایمان والو! تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں

۳. تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔

۴. بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں گویا سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔

۵. اور (یاد کرو) جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو! تم مجھے کیوں ستا رہے ہو حالانکہ تمہیں (بخوبی) معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، پس جب وہ لوگ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے انکے دلوں کو (اور) ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔



۶. اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے (میری قوم)، بنی اسرائیل! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے، پھر جب وہ انکے پاس کھلی دلیلیں لائے تو کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔

۷. اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔

۸. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے گو کافر برا مانیں۔

۹. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔

۱۰. اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔

۱۱. اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور تم جہاد کرو لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم میں ہو۔

۱۲. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہونگی اور صاف ستھرے گہروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

۱۳. اور تمہیں ایک دوسری (نعمت) بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، ایمانداروں کو خوشخبری دے دو۔

۱۴. اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد کی پس وہ غالب آگئے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا

اور کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل بیشک رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس جب

بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَأَمَّا

میں سے دونوں درمیان ہاتھوں کے سے تورات میں سے اور خوش خبری ایک رسول کی آئے گا میں بعد اس کا نام احمد ہوگا پھر جب (مجھ سے پہلے)

جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَىٰ

وہ آبان کے پاس ساتھ روشن انہوں نے کہا یہ جادو ہے کھلا ۶:۱ اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو کہنے پر

اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

اللہ (پر) جھوٹ کو حالانکہ وہ بلایا جاتا ہو طرف اسلام کی (طرف) اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو ظالم ہیں

﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ

۶:۷ وہ چاہتے ہیں کہ بجھادیں نور کو اللہ کے اپنے مونہوں سے اور اللہ بڑا کرنے والا ہے اپنے نور کو اور اگرچہ ناپسند کرتے ہوں

الْكٰفِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ

کافر ۶:۸ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کر دے اس کو

عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذْكَرٌ

اوپر دین کے سارے کے سارے اور ناپسند اگرچہ کریں شرک کرنے والے ۶:۹ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا میں تمہیں یاد دلاؤں گا

تَجْرَةً تُنَجِّيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ

ایک تجارت جو بچائے گا سے عذاب (سے) دردناک ۶:۱۰ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور تم جہاد کرو

فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

میں راستے (میں) اللہ کے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ یہ بات بہتر ہے تمہارے لئے اگر ہو تم تم علم رکھتے ۶:۱۱

يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ

بخشنی تم کو تمہارے گناہوں کو اور داخل کرے گا تم کو باغوں میں بہتی ہیں سے ان کے نیچے سے نہریں اور گہروں (میں) دے گا

طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا نَصْرٌ

پاکیزہ میں باغوں (میں) ہمیشگی کے یہی ہے کامیابی بڑی ۶:۱۲ اور دوسری چیز تم محبت رکھتے ہو اس سے مدد

مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا

سے اللہ کی طرف اور فتح قریبی قریبی اور خوش خبری دو مومنوں کو ۶:۱۳ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ہو جاؤ (ہے)

أَنْصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ

مددگار اللہ کے جیسے کہتا تھا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کون میرا مددگار ہوگا طرف اللہ کی

قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

کہا حواریوں نے ہم ہیں مددگار اللہ کے تو ایمان لایا ایک گروہ سے بنی اسرائیل میں سے

وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿١٤﴾

اور انکار کر دیا ایک گروہ نے ہم نے مدد ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور ان کے دشمنوں کے تو ہو گئے وہ غالب آئے والے ۶:۱۴

سورة الجمعة  
مدینہ  
سورہ نمبر: ۶۲ آیات: ۱۱

## سُورَةُ الْجُمُعَةِ

۱۱

۶۲

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ

تسبیح کر رہی ہے اللہ ہی کے لیے چیز میں آسمان میں ہے اور جو میں زمین میں ہے جو بادشاہ ہے نہایت باکبرہ زبردست

الْحَكِيمُ ۝ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ

حکمت والا ۱۱:۱ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا میں ان بڑھ لوگوں (میں) ایک رسول انہی میں سے جو پڑھنا ان پر ہے

آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا

اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت اور بیشک تھے وہ

مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَدْحَأُوا يَهُمْ

اس سے پہلے البتہ میں گمراہی میں کہلی ۱۱:۲ اور کچھ دوسرے ان میں سے حالانکہ وہ ملے ان کے ساتھ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ

اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے ۱۱:۳ یہ فضل ہے اللہ کا دیتا ہے اسے جس کو وہ چاہتا ہے اور اللہ

ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ

والا ہے فضل (والا ہے) بڑے ۱۱:۴ مثال ان لوگوں کی جو اٹھائے گئے تورات پھر نہ

يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ

انہوں نے اٹھایا اس کو مانند مثال گدھے کے ہے جو اٹھاتا ہے بوجھیں بری ہے مثال اس قوم کی

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

جنہوں نے جھٹلایا آیات کو اللہ کی اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو ظالم ہیں

۝ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ

۱۱:۵ کہہ دیجئے اے لوگو جو یہودی پڑے ہو اگر تم زعم رکھتے ہو بے شک تم دوست ہو اللہ کے سے

دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ

سوا لوگوں کے پس تم تمنا کرو موت کی اگر ہو تم سچے ۱۱:۶ اور نہ وہ تمنا کریں گے اس کی

أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۝ قُلْ

کبھی بھی بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کے بارے میں ۱۱:۷ کہہ دیجئے

إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ

بیشک موت وہ جو تم بھاگتے ہو اس سے تو بیشک وہ ملنے والی ہے تم سے پھر تم لوٹائے جاؤ گے

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

طرف جاننے والے غیب کے اور حاضر کے پھر وہ بتا دے گا تم کو تم بارے میں تم عمل کرنے ۱۱:۸

۱. ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں (جو) بادشاہ نہایت پاک (ہے) غالب و با حکمت ہے۔

۲. وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور دوسروں کے لئے بھی انہی میں سے جو اب تک ان سے نہیں ملے۔ وہی غالب با حکمت ہے۔

۳. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اپنا فضل دے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔

۴. جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بری مثال ہے اور اللہ (ایسی) ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔

۵. کہہ دیجئے کہ اے یہودیو! اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔

۶. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔

۷. کہہ دیجئے! کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر رہے گی پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے (اللہ) کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کئے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔



۹. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو! جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔

۱۰. پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔

۱۱. جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آجائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے بیس اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے بیس، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔

سورة المنافقون  
مدینہ  
سورة نمبر: ۶۳ آیات: ۱۱

۱. تیرے پاس جب منافق آتے بیس تو کہتے بیس ہم اس بات کے گواہ بیس کہ بیشک آپ اللہ کے رسول بیس، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول بیس اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے بیس۔

۲. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے پس اللہ کی راہ سے رک گئے، بیشک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے بیس۔

۳. یہ سب اس لئے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے پس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ اب یہ نہیں سمجھتے۔

۴. جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر (اپنا) کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں بیس اور دیوار کے سہارے لگائی ہوئی بیس ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے بیس، یہی حقیقی دشمن بیس ان سے بچو اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے بیس۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا

اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب بکارا جائے نماز کے دن جمعہ کے تو دوڑو

إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

طرف ذکر کی (طرف) اللہ کے اور چھوڑ دو تجارت یہ بہتر ہے تمہارے اگر تم علم رکھتے ہو

۹ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

۱۰ پھر جب پوری ہو جائے نماز تو پھیل جاؤ میں زمین (میں) اور تلاش کرو

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

۱۱ سے فضل میں (سے) اللہ کے اور ذکر کرو اللہ کا بہت تاکہ تم کامیابی پاؤ

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا أَنفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ

اور جب انہوں نے تجارت کو یا کھیل وہ مائل ہو گئے اس کی طرف اور انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو کھڑے۔ کھڑے۔ کھڑی کہہ جو پاس ہے

اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِو وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

۱۱ (پاس ہے) اللہ کے بہتر ہے سے کھیل تماشے سے اور تجارت (سے) اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے

۱۱

سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ

۶۳

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ

جب آتے بیس منافق کہتے بیس ہم گواہی بیشک آپ البتہ رسول بیس اللہ کے اور اللہ جانتا ہے بیشک آپ تیرے پاس

لِرَسُولِهِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝ اتَّخَذُوا

۱ البتہ اس کے اور اللہ گواہی دیتا ہے بیشک منافقین البتہ جھوٹے بیس انہوں نے بنا لیا

أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا

اپنی قسموں کو ڈھال تو انہوں نے روکا سے راستے سے اللہ کے بیشک وہ کتنا برا ہے جو کچھ وہ بیس

يَعْمَلُونَ ۝ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ

۲ وہ کر رہے ۱۱:۲ یہ کہ بیشک وہ بوجہ اس کے ایمان لائے پھر کفر کیا انہوں نے اور ان کے دلوں کے پس وہ

لَا يَفْقَهُونَ ۝ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا

نہیں سمجھتے بیس ۱۱:۲ پھر جب تم دیکھو ان کو اچھے لگیں گے تم کو ان کے جسمیں اور اگر وہ بات کریں

تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مِّنْ مَّسَدٍ يَّحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ

تم سنتے جاؤ ان کی بات کو گویا کہ وہ لکڑیاں بیس تختہ لگائی ہوئی وہ سمجھتے بیس ہر سخت آواز کو

عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

۴ ان کے خلاف ہے وہی دشمن بیس پس ڈرو ان سے۔ بچو ان سے غارت کرے ان کو اللہ کہاں سے پھرے جاتے بیس ۱۱:۴

وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُءٌ وَسَهُمٌ

اور جب کہا جاتا ہے ان سے آؤ بخشش مانگتے ہیں تمہارے لئے رسول اللہ کے موزے ہیں اپنے سروں کو

وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

اور تم دیکھتے ہو ان کو وہ باز رہتے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں ۱۲:۵ برابر ہے ان پر

أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

خواہ تم بخشش مانگو ان کے لئے یا نہ تم بخشش مانگو ان کے لئے ہرگز نہ معاف کرے گا اللہ ان کو

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ

کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کو جو فاسق ہیں ۱۲:۶ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں

لَا تَنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا إِلَيَّ

نہ تم خرچ کرو اوپر اس کے جو پاس ہیں رسول کے اللہ کے یہاں تک کہ وہ بھاگ جائیں اور اللہ کے لئے ہیں

خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

خزائے آسمانوں کے اور زمین کے لیکن منافق لوگ نہیں سمجھتے

يَقُولُونَ لِنِ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَا الْأَعَزُّ

۱۲:۷ وہ کہتے ہیں البتہ اگر لوٹے ہم طرف مدینہ کی البتہ ضرور نکالے گا زیادہ عزت والا

مِنْهَا الْأَذَلُّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ

اس سے زیادہ ذلیل کو اور اللہ کے عزت اور اس کے رسول کے لئے اور مومنوں کے لئے لیکن

الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ

منافق لوگ نہیں علم رکھتے ۱۲:۸ اے لوگو! جو ایمان لائے ہو نہ غافل کریں تم کو

أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ

مال تمہارے اور نہ اولاد تمہاری سے ذکر (سے) اللہ کے اور جو کوئی ایسا کرے گا

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ

تو یہی لوگ وہ ہیں جو خسارہ ہائے والے ہیں ۱۲:۹ اور خرچ کرو سے اس میں جو رزق دیا ہم نے تم کو

مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي

پہلے کہ آجائے تم میں سے کسی ایک کو موت تو کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے ذہل دی مجھ کو

إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَنْ

تک ایک وقت (تک) قریب کے تو میں صدقہ کرتا اور میں بوجاتا سے نیکوں میں (سے) ۱۲:۱۰ اور ہرگز نہ

يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

مہلت دے گا اللہ کسی نفس کو جب آجائے اس کی موت اور اللہ خبر رکھنے والا ہے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو ۱۲:۱۱ ذہل دے گا

۵. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لئے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔

۶. ان کے حق میں آپکا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بیشک اللہ تعالیٰ (ایسے) نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا،

۷. یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں اور آسمان و زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔

۸. یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا، سنو! عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور ایمانداروں کے لئے ہے لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔

۹. اے مسلمانو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی زیاں کار لوگ ہیں۔

۱۰. اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے (ہماری راہ میں) اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آجائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں ہو جاؤں۔

۱۱. اور جب کسی کا مقررہ وقت آجاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔



۱. تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے۔

۲. اسی نے تمہیں پیدا کیا سو تم میں سے بعض تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔

۳. اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔

۴. وہ آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وہ (سب کو) جانتا ہے اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔

۵. کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی؟ جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۶. یہ اس لئے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا پس انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ نے بے نیازی کی، اور اللہ تو بے نیاز سب خوبیوں والا۔

۷. ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں اللہ کی قسم! تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا اس کی خبر دیئے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل آسان ہے۔

۸. سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔

۹. جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے دن جمع کرے گا وہی دن ہے بار جیت کا اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

تسبیح کر رہی ہے اللہ کے لئے کچھ جو میں آسمانوں (میں) ہے اور جو میں زمین (میں) ہے اسی کے لئے بے ادشابت اور اسی کی تعریف

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ

اور وہ ہر چیز (پر) قدرت رکھنے والا ہے ۱:۱ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تم کو تو تم میں سے کوئی کافر اور تم میں سے

مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۲ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

کوئی مومن ہے اور اللہ کے جو ساتھ اس تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے ۲:۲ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو

بِالْحَقِّ وَصُورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝۳ يَعْلَمُ

حق کے ساتھ اور صورت بنائی تمہاری تو اچھی بنائیں صورتیں تمہاری اور اسی کی طرف لوٹنا ہے ۳:۳ وہ جانتا ہے

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلِنُونَ وَاللَّهُ

کچھ جو میں آسمانوں (میں) ہے اور زمین میں اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝۴ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ

جاننے والا ہے ۴:۴ کیا نہیں آئی تمہارے خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے

فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۵ ذَلِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَتْ تَأْتِيهِمْ

تو انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا اور ان کے لئے عذاب دردناک ۵:۵ یہ بوجہ اس کے کہ بیشک وہ تھے آئے ان کے پاس

رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرٍ يَلِدُونا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى

ان کے رسولوں نے ساتھ واضح آیات کے تو وہ کہتے کیا انسان بدایت دین کے ہم کو تو انہوں نے کفر کیا اور منہ موز گئے اور بے پرواہ ہو گیا

اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝۶ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ

اللہ اور اللہ بے نیاز ہے تعریف والا ہے ۶:۶ دعویٰ کیا ان لوگوں نے کہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے دیکھنے کیوں نہیں

وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمَلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۷

میرے رب کی قسم اٹھائے جاؤ گے پھر اللہ تم ضرور بارے میں جو تم نے عمل کئے اور یہ بات پر اللہ (پر) بہت آسان ہے ۷:۷

فَاعْمَلُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر وہ جو اتارا ہم نے اور اللہ اس کے ساتھ تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا

۝۸ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ

۸:۸ جس دن وہ جمع کرے گا تم کو دن جمع کرنے کے یہ دن ہے بار جیت کا اور جو ایمان لائے گا اللہ پر

وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكْفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَدْخُلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ

اور عمل کرے گا اچھے دور کردے گا اس سے اس کی برائیاں اور داخل کرے باغوں میں بہتی ہیں سے

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۹

جن کے نیچے نہریں ہمیشہ بہنے والے ہیں ان جنتوں ہمیشہ ہمیشہ یہی کامیابی ہے بہت بڑی ۹:۹

۱۰. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی (سب) جہنمی ہیں (جو) جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔

۱۱. کوئی مصیبت اللہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

۱۲. لوگو! اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔

۱۳. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیئے۔

۱۴. اے ایمان والو! تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں پس ان سے ہوشیار رہنا اور اگر تم معاف کردو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

۱۵. تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے

۱۶. پس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لئے بہتر ہے جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی لوگ کامیاب ہیں۔

۱۷. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے (یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے) تو وہ اسے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بڑا قہر دان اور بڑا بردبار ہے۔

۱۸. وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے زبردست حکمت والا (ہے)۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو یہی لوگ والے (آگ والے) ہیں

خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ

ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اور کتنا برا ٹھکانہ ہے ۶۴:۱۰ نہیں پہنچتی کوئی مصیبت

إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

مگر اذن سے اللہ کے اور جو کوئی ایمان لاتا ہے اللہ ہر وہ رہنمائی اس کے دل کی اور اللہ ہر

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن

چیز کو جاننے والا ہے ۶۴:۱۱ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر

تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ

منہ موزون تم تو بیشک ہر ہمارے رسول (پر) پہنچانا ہے ۶۴:۱۲ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں الہ برحق

إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا

مگر وہی اور پر اللہ (پر) ہی پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے اے

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَرْوَدِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا

لوگو جو ایمان لائے ہو بیشک سے تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے دشمن ہیں

لَكُمْ فَأَحْذَرُواهُمْ وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا

تمہارے لئے پس بچو ان سے اور اگر تم معاف کردو اور درگزر کرو گے اور بخش دو گے

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ

تو بیشک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے ۶۴:۱۴ بیشک مال تمہارے اور اولاد تمہاری

فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

آزمائش ہیں اور اللہ اس کے پاس اجر عظیم ہے ۶۴:۱۵ پس ڈرو اللہ سے جتنی تم میں استطاعت ہے

وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ

اور سنی اور اطاعت کرو اور خرچ کرو بہتر ہے اپنے آپ کے لئے اور جو بچا لیا گیا

شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِن تَقْرِضُوا

بخیلی سے اپنے نفس کی تو یہی لوگ وہ ہیں فلاح پانے والے ہیں اگر تم قرض دو گے

اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ

اللہ کو قرض حسنہ وہ دوگنا کر دے تمہارے لئے اور بخش دے گا تم کو اور اللہ قہر دان ہے

حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

بردبار ہے ۶۴:۱۷ جاننے والا ہے غیب کو اور حاضر کو زبردست ہے حکمت والا ۶۴:۱۸

سُورَةُ الطَّلَاقِ ﴿١٢﴾

۵۵۷



۱. اے نبی! (اپنی امت سے کہو کہ) جب تم

اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی

عدت (کے دنوں کے آغاز) میں انہیں طلاق

دو اور عدت کا حساب رکھو اور اللہ سے جو

تمہارا پروردگار بے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان

کے گھر سے نکالو اور نہ وہ (خود) نکلیں ہاں

یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں،

یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جو شخص

اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً

اپنے اوپر ظلم کیا، تم نہیں جانتے شاید اس

کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے

۲. پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے

کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدہ

کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور

کے مطابق انہیں الگ کر دو اور آپس میں سے

دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو اور اللہ کی

رضامندی کے لئے ٹھیک ٹھیک گواہی دو، یہی

ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے اور

جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا

ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس

کے لئے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔

۳. اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس

کا اسے گمان بھی نہ ہو اور جو شخص اللہ پر

توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ

اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا، اللہ تعالیٰ نے

ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

۴. تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض

سے نا امید ہوگئی ہوں، اگر تمہیں شبہ

ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور ان کی

بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو۔ اور

حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، اور

جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس

کے (ہر) کام میں آسانی کر دے گا۔

۵. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری

طرف اتارا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے

گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا

بہاری اجر دے گا۔

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

اے نبی! جب طلاق دو تم عورتوں کو تو طلاق دو ان کو ان کی عدت کے لئے اور شمار کرو۔ کن لو عدت کو

وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ

اور ڈرو اللہ سے جو رب ہے تم نکالو ان کو سے ان کے گھروں (سے) اور نہ وہ نکلیں مگر یہ کہ اور آئیں بے حیائی کو کھلی اور یہ حدود ہیں اللہ کی اور جو تجاوز کرے حدود سے اللہ کی

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

تو تحقیق ظلم کیا اپنے جان پر نہیں تم جانتے شاید کہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دے بعد اس کے کوئی صورت ۱۶:۱

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

پھر جب وہ پہنچیں اپنی مدت کو تو روک لو ان کو بھلے طریقے سے یا جدا کر دو ان کو ساتھ بھلے طریقے کے

وَأَشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلِ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُوَعِّظُ

اور گواہ بنا لو دو والوں کو عدل تم میں سے اور قائم کرو گواہی کو کے لئے اللہ ہی یہ بات نصیحت کی

بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

ساتھ اسے جو ہو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور جو ڈرے گا اللہ سے وہ بدلے گا اس کے

مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

نکلے گا راستہ ۱۶:۲ اور رزق دے گا اس کو سے جہاں سے نہ وہ گمان کرتا ہوگا اور جو بھروسہ کرے گا پر اللہ (پر)

فَهُوَ حَسْبُهُ وَإِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ

تو وہ کافی ہے اس کو بیشک اللہ تعالیٰ پہنچنے والا ہے اپنے حکم کو تحقیق بنادیا اللہ نے ہر کے لئے چیز کے لئے

قَدْرًا ۳ وَاللَّيْ يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ

ایک اندازہ ۱۶:۳ اور وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہوں سے حیض (سے) تمہاری عورتوں میں (سے) اگر

أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتُ

شک ہو تم کو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور وہ عورتیں جنہیں ابھی حیض آیا ہو۔ جو حاملہ ہوں اور والیاں

الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

حامل والیاں ان کی عدت کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل اور جو ڈرے گا اللہ سے

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۴ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ

وہ کر دے گا اس کے لئے اس کے کام میں آسانی ۱۶:۴ یہ حکم ہے اللہ کا اس نے نازل کیا تمہاری طرف

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ۵

اور جو ڈرے گا اللہ سے وہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں اور بڑا کر دے گا اس کے اجر کو ۱۶:۵

۶. تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان (طلاق والی) عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لئے تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہوئے انہیں خرچ دیتے رہا کرو پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔

۷. کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے (اپنی حسب حیثیت) دے، کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے، اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا۔

۸. اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی توہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا ان دیکھا (سخت) عذاب۔

۹. پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔

۱۰. ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو۔ یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے۔

۱۱. (یعنی) رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بیشک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔

۱۲. اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان اور اسی کے مثل زمینیں بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہ اعتبار علم گھیر رکھا ہے۔

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا

بساؤن عورتوں کو جسے جہاں تم رہتے ہو سے اپنی وسعت اور نہ تم ضرر پہنچاؤ ان کو تاکہ تم تنگ نہ کرو۔ تنگی کرو

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ

ان پر اور اگر بویوں والیاں (حامل) تو خرچ کرو ان پر یہاں تک کہ وہ رکھ دیں حمل اپنا بھرا کر

أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ

وہ دودھ پلائیں تمہارے تودے دوان کو ان کے اجر اور مشورہ کرو آپس میں بھلے طریقے سے اور اگر

تَعَاَسَرْتُمْ فَمِزْضِعْ لَهُ وَأُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ

اپس میں کشمکش کرو تم تو دودھ پلا دے اس کے کوئی دوسری تاکہ خرچ کرے والا وسعت والا) سے اپنی وسعت اور جو میں سے کسی کوئی

قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

تنگ کیا گیا اس پر اس کا رزق پس چاہیے کہ اس میں عطا کیا اس کو اللہ نے نہیں تکلیف دینا اللہ کسی کو مگر

مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ

جتنا دیا اسے عنقریب کر دے گا اللہ بعد تنگی کے آسانی تاکہ اور کتنی ہی سے بستوں میں سے انہوں نے اس کو سرکشی کی

عَنْ أَمْرٍ رَبِّهَا وَرَسُولِهِ فَحَاسِبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا

سے (حکم) اپنے رب کے اور اس کے تو حساب لیا ہم نے اس سے سخت عذاب

ثُكْرًا ۗ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۗ أَعَدَّ اللَّهُ

سخت تاکہ تو اس نے چکھا وبال اپنے کام کا اور ہے انجام اس کے کام کا ناکامی تاکہ تیار کیا اللہ نے

لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنْزَلَ

ان کے لئے عذاب عذاب پس ڈرو اللہ سے اے والو عقل والو) وہ جو ایمان لائے ہو تحقیق نازل کیا

اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۗ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ

اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر کو تاکہ وہ پڑھتا ہے تم پر آیات اللہ کی واضح تاکہ نکال دے

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ

ان لوگوں جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے سے اندھیروں سے طرف نور کی اور جو ایمان لائے

بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

اللہ پر اور عمل کرے اچھے داخل کرے گا اس کو باغوں میں بہتی ہیں سے جن کے نیچے نہریں ہمیشہ بہنے والے ہیں

فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۗ ۝۱۱ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

ان میں ہمیشہ تحقیق اچھا دیا اللہ نے اس کو رزق تاکہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو

وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ

اور سے زمین میں سے) انہی کی مانند اترتا ہے حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو بیشک اللہ تعالیٰ اور

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۗ ۝۱۲

ہر چیز کے قادر ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ تحقیق گھیر رکھا ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے تاکہ

۝۱۲



سورة التحريم  
مدینہ  
سورہ نمبر: ۶۶ آیات: ۱۲

سُورَةُ التَّحْرِيمِ ۶۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبَتَّغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیوں آپ حرام قرار جو حلال کیا اللہ نے آپ کے آپ چاہتے ہیں رضامندی اپنی بیویوں کی اور اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ

بخشنے والا مہربان ہے ۱:۱ تحقیق فرض کیا اللہ نے آپ کو کہولنا تمہاری قسموں کا اور اللہ تعالیٰ مولا ہے تمہارا اور وہ

الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۲ وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا

علم والا ہے حکمت والا ہے ۲:۲ اور جب چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرف اپنی بعض بیویوں کے ایک بات کو توجہ

نَبَّأَتْ بِهِ ۖ وَأظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضُهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا

اس نے اس کی اور ظاہر کر دیا اللہ نے اس پر اس نے بتا دیا۔ اس کا بعض اور اعراض برتا سے بعض (سے) توجہ

نَبَّأَهَا بِهِ ۖ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۳ إِنْ

اس نے خبر دی اس کے بتا دیا۔ آپ کو اس نے خبر دی ہے اس کی فرمایا خبر دی معجزہ کو علم والا خبر والا ہے ۳:۳ اگر

تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ

تم دونوں طرف اللہ کی تو تحقیق جھک بڑے تم دونوں کے دل اور اگر تم ایک دوسرے آپ کے خلاف پس بیشک اللہ تعالیٰ

هُوَ مَوْلَاكُمْ وَجَبْرِيْلُ وَصَلِيْحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ

وہ اس کا مولا ہے اور جبرائیل اور صالح اور فرشتے اور فرشتے بعد اس کے

ظٰهِيْرٌ ۴ عَسٰٓى رَبُّهٗٓۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبَدِّلَهٗٓۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ

مددگار ہیں ۴:۴ امید ہے آپ کا رب اگر وہ طلاق دے تم کو کہ وہ بدل کر دے بیویاں بہتر تم عورتوں سے

مُسٰٓمِلٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تَبٰٓتِ عِبٰدٰتِهِنَّ سَلٰٓحٰتٍ ثٰبِتٰتٍ

جو مسلمان ہوں مومن ہوں اطاعت گزار توبہ گزار عبادت گزار شوہر دہہ۔ شوہر والیاں

وَأَبٰرًا ۵ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

اور کنواری ہوں ۵:۵ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو آگ سے

وَقُوْدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غٰلِظٌ شِدَادٌ

ایندھن اس کا لوگ ہوں گے اور پتھر اس پر فرشتے ہیں سخت زبردست

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۶ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ

نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی جو اس نے حکم اور وہ کرتے ہیں وہ جو وہ حکم دئے جاتے ہیں ۶:۶ اے لوگو

كَفَرُوْا لَا تَعْتٰذِرُوْا الْيَوْمَ اِنَّمَا تُحْزَنُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۷

جنہوں نے کفر کیا نہ تم معذرت کرو آج کے دن بیشک تم جزا دئے جا رہے ہو جو تم نے تم عمل کرتے ۷:۷

۱. اے نبی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ (کیا) آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

۲. تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے وہی (پورے) علم والا، حکمت والا ہے۔

۳. اور یاد کرو کہ جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے، پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔

۴. (اے نبی کی دونوں بیویو!) اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو (تو بہت بہتر ہے) یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کار ساز اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک ایماندار اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں۔

۵. اگر وہ (پیغمبر) تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب! تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا جو اسلام والیاں توبہ کرنے والیاں، عبادت بجالانے والیاں روزے رکھنے والیاں ہوں گی بیوہ اور کنواریاں۔

۶. اے ایمان والو! تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجالاتے ہیں۔

۷. اے کافرو! آج تم عذر و بہانہ مت کرو۔ تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔

۳/۴  
المزب  
۵۶

